

29 مارچ 2018

برامپٹن فائر جانیں بچانے کے لیے بڑا ڈیٹا استعمال کر رہا ہے

برامپٹن، آن – برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (BFES) اپنی عوامی آگاہی کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور برامپٹن میں آگ سے حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ڈیٹا استعمال کر رہا ہے۔

اپنے پاس موجود ریکارڈز، اینوائرونکس ڈیٹا اور دیگر جدت پسند ٹیکنالوجیوں کے ایک امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے – BFES نے اس بارے میں خاطر خواہ سمجھ بوجھ حاصل کر لی ہے کہ برامپٹن میں آگ کہاں لگ رہی ہے، کس وجہ سے لگ رہی ہے اور مزید بہت کچھ خصوصی طور پر، BFES نے تین ایسے علاقوں کی شناخت کی ہے، جہاں پر آگ لگنے کے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور اس شرح کو کم کرنے کے لیے ایک پانچ سالہ منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔

تین ہدفی علاقوں میں شامل ہیں شہر کے جنوبی حصہ میں آرم برو ہائیٹس، وسطی مغربی برامپٹن میں رج ہل اور برامیلا سٹی سنٹر شاپنگ مال کے ساتھ جڑے ہوا، سٹی سنٹر۔ ان تین علاقوں اور ان سے متعلقہ آگ سے حفاظت کے خدشات کی کہانی سنانے کے لیے، برامپٹن فائر نے [نقشے پر مبنی، ایک بصری پریزینٹیشن](#) تیار کی ہے۔ یہ پریزینٹیشن کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس کے ذریعے قابل رسائی ہے اور اس کے پس منظر کا ڈیٹا ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔

2012 اور 2017 کے درمیان، ان علاقوں میں تقریباً 250 مرتبہ آگ کے واقعات دیکھے گئے ہیں، جو برامپٹن کے رہائشی علاقوں کے تمام واقعات میں سے 32 فیصد بنتے ہیں۔ آگ کے ان واقعات میں سے 30 اور 40 فیصد کچن میں شروع ہوئے۔ گبراج میں باربی کیو کرنا یا کھانا پکانا اور غیر مناسب طریقے سے سگریٹ نوشی کی چیزوں کو پھینکنا بھی اس کی اہم وجوہات تھیں۔

کچھ ہدفی علاقوں میں بڑی تعداد میں کئی منزلہ بلند رہائشی عمارتیں موجود ہیں اور عمومی طور پر، GTA میں ہر سال اونچی عمارتوں میں آگ کے واقعات میں ایک سے دو فیصد تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برامپٹن میں کئی منزلہ اونچی رہائشی اپارٹمنٹ والی عمارتوں کی تعداد صرف 88 ہے مگر ان جگہوں پر آگ کے واقعات رہائشی عمارتوں میں آگ کے تمام واقعات کا 16 فیصد بنتے ہیں۔

BFES نے اس مسئلے پر ردعمل ایک شاندار عوامی آگاہی مہم اور آگ سے بچاؤ کی کوششوں کے ذریعے دیا ہے، جس کا ہدف اگلے پانچ سال کے دوران ان علاقوں میں واقعات کی تعداد کو کم کرنا تھا۔ کلیدی پیغامات میں نگرانی کے بغیر کھانا پکانے کے خطرات اور دھوئیں کے فعال الارم کی اہمیت شامل ہے۔

پچھلے چھ مہینوں کے دوران، BFES نے آرم برو ہائیٹس، رج ہل اور سٹی سنٹر میں درج ذیل طریقوں سے ترغیبی کوششیں بڑھا دی ہیں:

- علاقے کے حساب سے سماجی میڈیا پر اشتہارات
- مقامی پرچوں کی دکانوں اور کمیونٹی کے مقامات پر اشتہارات
- فائر ٹرک پر پیغامات
- کئی منزلہ اونچی عمارتوں کی لابیوں میں ٹیلیویژن اسکرینوں کی تنصیب
- گھروں، اپارٹمنٹس، اسکولوں اور کمیونٹی کے جمع ہونے کی جگہوں کا دورہ کرنا
- کمیونٹی کی تقریبات میں حصہ لینا

برامپٹن کے تمام فائر فائٹر ایک سند یافتہ لیول ون فائر سیفٹی ایجوکیٹر کے برابر تربیت یافتہ ہیں۔ آگ سے بچاؤ کے افسران حفاظتی معائنوں کو بڑھا رہے ہیں، کئی منزلہ اونچی عمارتوں اور خطرے کی زد میں جگہوں، جیسا کہ سینٹرز ہومز وغیرہ پر توجہ دے رہے ہیں۔

ابھی تک، ان تین علاقوں میں تقریباً 7,000 ایلیمنٹری اور ہائی اسکول کے طلباء کے سامنے آگ سے حفاظت کی پریزینٹیشنز دی جا چکی ہیں۔ 2,500 سے زائد کئی منزلہ اونچی عمارتوں والی رہائشوں تک علاقے کے لیے مخصوص معلومات پہنچائی گئیں اور 1,000 سے زائد کئی منزلہ عمارتوں کے رہائشیوں نے آگ سے حفاظت کے متعلق آگ بجھانے والے افسران سے بات چیت کی ہے۔

آنے والے مہینوں میں مزید عوامی آگاہی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ آگ سے حفاظت کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی www.bramptonfire.com ملاحظہ کریں

آگ سے حفاظت کے سادہ مفید مشورے:

- کھانا پکاتے ہوئے ہمیشہ کچن میں موجود رہیں اور غنودگی کی حالت میں کھانا نہ پکائیں۔
- کبھی بھی اپنے گیراج میں باربی کیو نہ کریں یا دیگر کوئی ٹگر استعمال نہ کریں۔
- اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے الارم لگوائیں۔
- اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر اسموک الارم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک الارم نصب کروائیں۔
- ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔
- اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ الارم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے الارم اتار کر نئے لگوائیں۔
- اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو چوکنا رہیں اور زیادہ گہرائی والی ایش ٹریز استعمال کریں۔

اقتباسات:

"برامپٹن فائر اپنے شہر میں آگ سے حفاظت کے خدشات کی شناخت اور بچاؤ کرنے کے لیے حکمت عملیاں تیار کرنے کے لیے ٹولز اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کینیڈا میں رہنما کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے رہائشیوں کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اور میں آنے والے ہفتوں میں برامپٹن فائر کی حفاظت سے متعلق آگاہی کی کوششوں کے لیے پرجوش ہوں۔"

- میئر لنڈا جیفری

"بغیر نگرانی کے کھانا پکانا اور دھوئیں کے الارم ابھی بھی برامپٹن میں خدشے کا باعث ہیں - صرف ہدفی علاقوں میں ہی نہیں، بلکہ پورے شہر میں۔ ہم جانتے ہیں کہ دھوئیں کے فعال الارم جانیں بچاتے ہیں؛ یقینی بنائیں کہ آپ انہیں اپنے گھر کی ہر منزل پر سونے کی تمام جگہوں کے باہر لگوائیں اور کبھی بھی کھانا پکاتے ہوئے کھانے کو اکیلا نہ چھوڑیں۔"

ریجنل کونسلر اور چیئر، کمیونٹی سروسز، مائیکل پیلاشی

ہماری کمیونٹی کا خطرے کی کمی کا منصوبہ ہمارے لیے ترجیحی منصوبہ ہے۔ مجھے اعتماد ہے کہ ان تین کلیدی علاقوں کو مرکز توجہ رکھتے ہوئے تربیت اور عوامی آگاہی کے لیے ہماری اضافی کوششوں کا برامپٹن کے رہائشیوں کی زندگیوں پر مثبت اثر مرتب ہو گا۔"

- فائر چیف بل بوئیز

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654